

## ARABIC VERB CONJUGATOR

كَانَ  
يَكُونُ

Be

VERBAL NOUN (MASDAR)

كُونًا

ہونا / وجود رکھنا

Root: ك و ن

PAST	كَانَ وہ تھا	PRESENT	يَكُونُ وہ ہوتا ہے	MASDAR	كُونًا ہونا / وجود رکھنا	ISM FA'IL	كَائِنٌ ہونے والا / موجود	ISM MAFOOL	مَكُونٌ جو وجود میں لایا گیا
------	-----------------	---------	-----------------------	--------	-----------------------------	-----------	------------------------------	------------	---------------------------------

## PAST TENSE

الماضي

الضمير	الفعل	ضمير	ترجمہ
هُوَ	كَانَ	وہ (ایک مرد)	وہ ایک مرد تھا
هُمَا	كَانَا	وہ (دو مرد)	وہ دو مرد تھے
هُمْ	كَانُوا	وہ (سب مرد)	وہ سب مرد تھے
هِيَ	كَانَتْ	وہ (ایک عورت)	وہ ایک عورت تھی
هُمَا	كَانَتَا	وہ (دو عورتیں)	ان دو عورتیں تھیں
هُنَّ	كُنْنَ	وہ (سب عورتیں)	ان سب عورتیں تھیں
أَنْتَ	كُنْتَ	تم (ایک مرد)	تم ایک مرد تھے
أَنْتُمَا	كُنْتُمَا	تم (دو مرد / عورتیں)	تم دونوں تھے
أَنْتُمْ	كُنْتُمْ	تم (سب مرد)	تم سب مرد تھے
أَنْتِ	كُنْتِ	تم (ایک عورت)	تم ایک عورت تھیں
أَنْتُمَا	كُنْتُمَا	تم (دو عورتیں)	تم دونوں عورتیں تھیں
أَنْتُنَّ	كُنْتُنَّ	تم (سب عورتیں)	تم سب عورتیں تھیں
أَنَا	كُنْتُ	میں	میں تھا / تھی
نَحْنُ	كُنَّا	ہم	ہم تھے

## PRESENT / FUTURE

المضارع

الضمير	الفعل	ضمير	ترجمہ
هُوَ	يَكُونُ	وہ (ایک مرد)	وہ ایک مرد ہوتا ہے
هُمَا	يَكُونَانِ	وہ (دو مرد)	وہ دو مرد ہوتے ہیں
هُمْ	يَكُونُونَ	وہ (سب مرد)	وہ سب مرد ہوتے ہیں

ترجمہ	ضمیر	الفعل	الضمیر
وہ ایک عورت ہوتی ہے	وہ (ایک عورت)	تَكُونُ	هِيَ
وہ دو عورتیں ہوتی ہیں	وہ (دو عورتیں)	تَكُونَانِ	هُمَا
وہ سب عورتیں ہوتی ہیں	وہ (سب عورتیں)	يَكُنَّ	هُنَّ
تم ایک مرد ہوتے ہو	تم (ایک مرد)	تَكُونُ	أَنْتَ
تم دونوں ہوتے ہو	تم (دو مرد/عورتیں)	تَكُونَانِ	أَنْتُمَا
تم سب مرد ہوتے ہو	تم (سب مرد)	تَكُونُونَ	أَنْتُمْ
تم ایک عورت ہوتی ہو	تم (ایک عورت)	تَكُونِينَ	أَنْتِ
تم دونوں عورتیں ہوتی ہو	تم (دو عورتیں)	تَكُونَانِ	أَنْتُمَا
تم سب عورتیں ہوتی ہو	تم (سب عورتیں)	تَكُنَّ	أَنْتُنَّ
میں ہوتا/ہوتی ہوں	میں	أَكُونُ	أَنَا
ہم ہوتے ہیں	ہم	نَكُونُ	نَحْنُ

## IMPERATIVE

## الأمر والنهي

POSITIVE		الأمر	NEGATIVE		النهي
الضمیر	الفعل	ترجمہ	الضمیر	الفعل	ترجمہ
أَنْتَ	كُنْ	تم ہو جاؤ / بنو (مذکر واحد)	أَنْتِ	لَا تَكُنِّي	تم مت ہو / مت بنو (مذکر واحد)
أَنْتُمَا	كُونَا	تم دونوں ہو جاؤ / بنو	أَنْتُمَا	لَا تَكُونَا	تم دونوں مت ہو / مت بنو
أَنْتُمْ	كُونُوا	تم سب ہو جاؤ / بنو (مذکر جمع)	أَنْتُمْ	لَا تَكُونُوا	تم سب مت ہو / مت بنو (مذکر جمع)
أَنْتِ	كُونِي	تم ہو جاؤ / بنو (مؤنث واحد)	أَنْتِ	لَا تَكُونِي	تم مت ہو / مت بنو (مؤنث واحد)
أَنْتُمَا	كُونَا	تم دونوں ہو جاؤ / بنو (مؤنث)	أَنْتُمَا	لَا تَكُونَا	تم دونوں مت ہو / مت بنو (مؤنث)
أَنْتُنَّ	كُنَّ	تم سب ہو جاؤ / بنو (مؤنث جمع)	أَنْتُنَّ	لَا تَكُنَّ	تم سب مت ہو / مت بنو (مؤنث جمع)

## الجدول الإسنادي — الماضي

## RELATIONAL MAPPING — PAST

هو	وه (ایک مرد)
نِي	كَانِي
نَا	كَانَا
كَ	كَانَكَ
كُمَا	كَانَكُمَا
كُم	كَانَكُم
كَ	كَانَكَ
كُنَّ	كَانَكُنَّ
ه	كَانَهُ
هُمَا	كَانَهُمَا
هُم	كَانَهُم
هَا	كَانَهَا
هُمَا	كَانَهُمَا
هِنَّ	كَانَهُنَّ

هِيَ (مذكر)	وه (دو مرد)
نِي	كَانَانِي
نَا	كَانَانَا
كَ	كَانَانِكَ
كُمَا	كَانَانَكُمَا
كُم	كَانَانَكُم
كَ	كَانَانِكَ
كُنَّ	كَانَانَكُنَّ
ه	كَانَانَهُ
هُمَا	كَانَانَهُمَا
هُم	كَانَانَهُم
هَا	كَانَانَهَا
هِنَّ	كَانَانَهُنَّ

م	وہ (سب مرد)
نِيْ	ان سب مردوں نے مجھے تھا
نَا	ان سب مردوں نے ہمیں تھا
كَ	ان سب مردوں نے تمہیں (ایک مرد) تھا
كَا	ان سب مردوں نے تم دونوں کو تھا
كُم	ان سب مردوں نے تم سب (مردوں) کو تھا
كَ	ان سب مردوں نے تمہیں (ایک عورت) تھا
كُنَّ	ان سب مردوں نے تم سب (عورتوں) کو تھا
هُ	ان سب مردوں نے اسے (ایک مرد) تھا
هُمَا	ان سب مردوں نے ان دونوں کو تھا
هُم	ان سب مردوں نے ان سب (مردوں) کو تھا
هَا	ان سب مردوں نے اسے (ایک عورت) تھا
هِنَّ	ان سب مردوں نے ان سب (عورتوں) کو تھا

ہِ	وہ (ایک عورت)
نِيْ	اس ایک عورت نے مجھے تھا
نَا	اس ایک عورت نے ہمیں تھا
كَ	اس ایک عورت نے تمہیں (ایک مرد) تھا
كَا	اس ایک عورت نے تم دونوں کو تھا
كُم	اس ایک عورت نے تم سب (مردوں) کو تھا
كَ	اس ایک عورت نے تمہیں (ایک عورت) تھا
كُنَّ	اس ایک عورت نے تم سب (عورتوں) کو تھا
هُ	اس ایک عورت نے اسے (ایک مرد) تھا
هُمَا	اس ایک عورت نے ان دونوں کو تھا
هُم	اس ایک عورت نے ان سب (مردوں) کو تھا
هَا	اس ایک عورت نے اسے (ایک عورت) تھا
هِنَّ	اس ایک عورت نے ان سب (عورتوں) کو تھا

ہما (مؤنث)		وہ (دو عورتیں)
نِی	کَاتَانِی	ان دو عورتوں نے مجھے تھا
نَا	کَاتَانَا	ان دو عورتوں نے ہمیں تھا
ک	کَاتَاکَ	ان دو عورتوں نے تمہیں (ایک مرد) تھا
کَا	کَاتَاکَا	ان دو عورتوں نے تم دونوں کو تھا
کُم	کَاتَاکُمُ	ان دو عورتوں نے تم سب (مردوں) کو تھا
کِ	کَاتَاکِ	ان دو عورتوں نے تمہیں (ایک عورت) تھا
کُنَّ	کَاتَاکُنَّ	ان دو عورتوں نے تم سب (عورتوں) کو تھا
ہ	کَاتَاہُ	ان دو عورتوں نے اسے (ایک مرد) تھا
ہمَا	کَاتَاہُمَا	ان دو عورتوں نے ان دونوں کو تھا
ہُمْ	کَاتَاہُمْ	ان دو عورتوں نے ان سب (مردوں) کو تھا
ہَا	کَاتَاہَا	ان دو عورتوں نے اسے (ایک عورت) تھا
ہُنَّ	کَاتَاہُنَّ	ان دو عورتوں نے ان سب (عورتوں) کو تھا

ہن		وہ (سب عورتیں)
نِی	کُنَّی	ان سب عورتوں نے مجھے تھا
نَا	کُنْنَا	ان سب عورتوں نے ہمیں تھا
کِ	کُنَّکِ	ان سب عورتوں نے تمہیں (ایک مرد) تھا
کَا	کُنَّکَا	ان سب عورتوں نے تم دونوں کو تھا
کُم	کُنَّکُمُ	ان سب عورتوں نے تم سب (مردوں) کو تھا
کِ	کُنَّکِ	ان سب عورتوں نے تمہیں (ایک عورت) تھا
کُنَّ	کُنَّکُنَّ	ان سب عورتوں نے تم سب (عورتوں) کو تھا
ہ	کُنَّہُ	ان سب عورتوں نے اسے (ایک مرد) تھا
ہمَا	کُنَّہُمَا	ان سب عورتوں نے ان دونوں کو تھا
ہُمْ	کُنَّہُمْ	ان سب عورتوں نے ان سب (مردوں) کو تھا
ہَا	کُنَّہَا	ان سب عورتوں نے اسے (ایک عورت) تھا
ہُنَّ	کُنَّہُنَّ	ان سب عورتوں نے ان سب (عورتوں) کو تھا

تم (ایک مرد)	أنت	تم دونوں (مرد/عورت)	أنتما
تم (ایک مرد) نے مجھے تھا	کنتنی	تم دونوں نے مجھے تھا	کنتمانی
تم (ایک مرد) نے ہمیں تھا	کنتنا	تم دونوں نے ہمیں تھا	کنتمانا
تم (ایک مرد) نے اسے (ایک مرد) تھا	کنتہ	تم دونوں نے اسے (ایک مرد) تھا	کنتماہ
تم (ایک مرد) نے ان دونوں کو تھا	کنتہما	تم دونوں نے ان دونوں کو تھا	کنتماہما
تم (ایک مرد) نے ان سب (مردوں) کو تھا	کنتہم	تم دونوں نے ان سب (مردوں) کو تھا	کنتماہم
تم (ایک مرد) نے اسے (ایک عورت) تھا	کنتہا	تم دونوں نے اسے (ایک عورت) تھا	کنتماہا
تم (ایک مرد) نے ان سب (عورتوں) کو تھا	کنتہن	تم دونوں نے ان سب (عورتوں) کو تھا	کنتماہن

تم سب (مرد)	أنتم	تم (ایک عورت)	أنتِ
تم سب (مردوں) نے مجھے تھا	کنتمونی	تم (ایک عورت) نے مجھے تھا	کنتنی
تم سب (مردوں) نے ہمیں تھا	کنتمونا	تم (ایک عورت) نے ہمیں تھا	کنتنا
تم سب (مردوں) نے اسے (ایک مرد) تھا	کنتموہ	تم (ایک عورت) نے اسے (ایک مرد) تھا	کنتہ
تم سب (مردوں) نے ان دونوں کو تھا	کنتموہما	تم (ایک عورت) نے ان دونوں کو تھا	کنتہما
تم سب (مردوں) نے ان سب (مردوں) کو تھا	کنتموہم	تم (ایک عورت) نے ان سب (مردوں) کو تھا	کنتہم
تم سب (مردوں) نے اسے (ایک عورت) تھا	کنتموہا	تم (ایک عورت) نے اسے (ایک عورت) تھا	کنتہا
تم سب (مردوں) نے ان سب (عورتوں) کو تھا	کنتموہن	تم (ایک عورت) نے ان سب (عورتوں) کو تھا	کنتہن

تم سب (عورتیں)	أنتن	میں	أنا
تم سب (عورتوں) نے مجھے تھا	کنتننی	میں نے تمہیں (ایک مرد) تھا	کنتک
تم سب (عورتوں) نے ہمیں تھا	کنتننا	میں نے تم دونوں کو تھا	کنتکا
تم سب (عورتوں) نے اسے (ایک مرد) تھا	کنتنہ	میں نے تم سب (مردوں) کو تھا	کنتکم
تم سب (عورتوں) نے ان دونوں کو تھا	کنتنہما	میں نے تمہیں (ایک عورت) تھا	کنتک
تم سب (عورتوں) نے ان سب (مردوں) کو تھا	کنتنہم	میں نے تم سب (عورتوں) کو تھا	کنتکن
تم سب (عورتوں) نے اسے (ایک عورت) تھا	کنتنہا	میں نے اسے (ایک مرد) تھا	کنتہ
تم سب (عورتوں) نے ان سب (عورتوں) کو تھا	کنتنہن	میں نے ان دونوں کو تھا	کنتہما
		میں نے ان سب (مردوں) کو تھا	کنتہم
		میں نے اسے (ایک عورت) تھا	کنتہا
		میں نے ان سب (عورتوں) کو تھا	کنتہن

ہم	نَحْنُ	
ہم نے تمہیں (ایک مرد) تھا	كُنَّا	كَ
ہم نے تم دونوں کو تھا	كُنَّا	كُمَا
ہم نے تم سب (مردوں) کو تھا	كُنَّا	كُمُ
ہم نے تمہیں (ایک عورت) تھا	كُنَّا	كَ
ہم نے تم سب (عورتوں) کو تھا	كُنَّا	كُنَّ
ہم نے اسے (ایک مرد) تھا	كُنَّا	هُ
ہم نے ان دونوں کو تھا	كُنَّا	هُمَا
ہم نے ان سب (مردوں) کو تھا	كُنَّا	هُمْ
ہم نے اسے (ایک عورت) تھا	كُنَّا	هَا
ہم نے ان سب (عورتوں) کو تھا	كُنَّا	هُنَّ

## الجدول الإسنادي — المضارع

## RELATIONAL MAPPING — PRESENT

هو		وه (ایک مرد)
نِي	يَكُونِي	وہ مجھے ہوتا ہے
نَا	يَكُونَانَا	وہ ہمیں ہوتا ہے
كَ	يَكُونُكَ	وہ تمہیں (ایک مرد) ہوتا ہے
كُمَا	يَكُونُكُمَا	وہ تم دونوں کو ہوتا ہے
كُم	يَكُونُكُمْ	وہ تم سب (مردوں) کو ہوتا ہے
كَ	يَكُونُكَ	وہ تمہیں (ایک عورت) ہوتا ہے
كُنَّ	يَكُونَنَّ	وہ تم سب (عورتوں) کو ہوتا ہے
ه	يَكُونُهُ	وہ اسے (ایک مرد) ہوتا ہے
هُمَا	يَكُونُهُمَا	وہ ان دونوں کو ہوتا ہے
هُمْ	يَكُونُهُمْ	وہ ان سب (مردوں) کو ہوتا ہے
هَا	يَكُونُهَا	وہ اسے (ایک عورت) ہوتا ہے
هُمَا	يَكُونُهُمَا	وہ ان دونوں عورتوں کو ہوتا ہے
هِنَّ	يَكُونُنَّ	وہ ان سب (عورتوں) کو ہوتا ہے
ہیما (مذکر)		وه (دو مرد)
نِي	يَكُونَانِي	وہ دو مرد مجھے ہوتے ہیں
نَا	يَكُونَانَا	وہ دو مرد ہمیں ہوتے ہیں
كَ	يَكُونَاكَ	وہ دو مرد تمہیں (ایک مرد) ہوتے ہیں
كُمَا	يَكُونَاكُمَا	وہ دو مرد تم دونوں کو ہوتے ہیں
كُم	يَكُونَاكُمْ	وہ دو مرد تم سب (مردوں) کو ہوتے ہیں
كَ	يَكُونَاكَ	وہ دو مرد تمہیں (ایک عورت) ہوتے ہیں
كُنَّ	يَكُونَانَنَّ	وہ دو مرد تم سب (عورتوں) کو ہوتے ہیں
ه	يَكُونَاهُ	وہ دو مرد اسے (ایک مرد) ہوتے ہیں
هُمَا	يَكُونَاهُمَا	وہ دو مرد ان دونوں کو ہوتے ہیں
هُمْ	يَكُونَاهُمْ	وہ دو مرد ان سب (مردوں) کو ہوتے ہیں
هَا	يَكُونَاهَا	وہ دو مرد اسے (ایک عورت) ہوتے ہیں
هِنَّ	يَكُونَانَهُنَّ	وہ دو مرد ان سب (عورتوں) کو ہوتے ہیں

هم	وہ (سب مرد)
نِي	وہ سب مرد مجھے ہوتے ہیں يَكُونُنِي
نَا	وہ سب مرد ہمیں ہوتے ہیں يَكُونُنَا
كَ	وہ سب مرد تمہیں (ایک مرد) ہوتے ہیں يَكُونُكَ
كَمَا	وہ سب مرد تم دونوں کو ہوتے ہیں يَكُونُكَمَا
كُم	وہ سب مرد تم سب (مردوں) کو ہوتے ہیں يَكُونُكُمْ
كَ	وہ سب مرد تمہیں (ایک عورت) ہوتے ہیں يَكُونُكَ
كُنَّ	وہ سب مرد تم سب (عورتوں) کو ہوتے ہیں يَكُونُكُنَّ
هُ	وہ سب مرد اسے (ایک مرد) ہوتے ہیں يَكُونُهُ
هُمَا	وہ سب مرد ان دونوں کو ہوتے ہیں يَكُونُهُمَا
هُمْ	وہ سب مرد ان سب (مردوں) کو ہوتے ہیں يَكُونُهُمْ
هَا	وہ سب مرد اسے (ایک عورت) ہوتے ہیں يَكُونُهَا
هِنَّ	وہ سب مرد ان سب (عورتوں) کو ہوتے ہیں يَكُونُهُنَّ

هي	وہ (ایک عورت)
نِي	وہ ایک عورت مجھے ہوتی ہے تَكُونُنِي
نَا	وہ ایک عورت ہمیں ہوتی ہے تَكُونُنَا
كَ	وہ ایک عورت تمہیں (ایک مرد) ہوتی ہے تَكُونُكَ
كَمَا	وہ ایک عورت تم دونوں کو ہوتی ہے تَكُونُكَمَا
كُم	وہ ایک عورت تم سب (مردوں) کو ہوتی ہے تَكُونُكُمْ
كَ	وہ ایک عورت تمہیں (ایک عورت) ہوتی ہے تَكُونُكَ
كُنَّ	وہ ایک عورت تم سب (عورتوں) کو ہوتی ہے تَكُونُكُنَّ
هُ	وہ ایک عورت اسے (ایک مرد) ہوتی ہے تَكُونُهُ
هُمَا	وہ ایک عورت ان دونوں کو ہوتی ہے تَكُونُهُمَا
هُمْ	وہ ایک عورت ان سب (مردوں) کو ہوتی ہے تَكُونُهُمْ
هَا	وہ ایک عورت اسے (ایک عورت) ہوتی ہے تَكُونُهَا
هِنَّ	وہ ایک عورت ان سب (عورتوں) کو ہوتی ہے تَكُونُهُنَّ

ہما (مؤنث)		وہ (دو عورتیں)
نِی	تُکُونَانِی	وہ دو عورتیں مجھے ہوتی ہیں
نَا	تُکُونَانَا	وہ دو عورتیں ہمیں ہوتی ہیں
کَ	تُکُونَاکَ	وہ دو عورتیں تمہیں (ایک مرد) ہوتی ہیں
کَا	تُکُونَاکَا	وہ دو عورتیں تم دونوں کو ہوتی ہیں
کُم	تُکُونَاکُم	وہ دو عورتیں تم سب (مردوں) کو ہوتی ہیں
کِ	تُکُونَاکِ	وہ دو عورتیں تمہیں (ایک عورت) ہوتی ہیں
کُنَّ	تُکُونَاکُنَّ	وہ دو عورتیں تم سب (عورتوں) کو ہوتی ہیں
ہُ	تُکُونَاہُ	وہ دو عورتیں اسے (ایک مرد) ہوتی ہیں
ہَمَا	تُکُونَاہَمَا	وہ دو عورتیں ان دونوں کو ہوتی ہیں
ہُم	تُکُونَاہُم	وہ دو عورتیں ان سب (مردوں) کو ہوتی ہیں
ہَا	تُکُونَاہَا	وہ دو عورتیں اسے (ایک عورت) ہوتی ہیں
ہُنَّ	تُکُونَاہُنَّ	وہ دو عورتیں ان سب (عورتوں) کو ہوتی ہیں

ہن		وہ (سب عورتیں)
نِی	یُکْنِی	وہ سب عورتیں مجھے ہوتی ہیں
نَا	یُکْنَا	وہ سب عورتیں ہمیں ہوتی ہیں
کَ	یُکْنَاکَ	وہ سب عورتیں تمہیں (ایک مرد) ہوتی ہیں
کَا	یُکْنَاکَا	وہ سب عورتیں تم دونوں کو ہوتی ہیں
کُم	یُکْنَاکُم	وہ سب عورتیں تم سب (مردوں) کو ہوتی ہیں
کِ	یُکْنَاکِ	وہ سب عورتیں تمہیں (ایک عورت) ہوتی ہیں
کُنَّ	یُکْنَاکُنَّ	وہ سب عورتیں تم سب (عورتوں) کو ہوتی ہیں
ہُ	یُکْنَاہُ	وہ سب عورتیں اسے (ایک مرد) ہوتی ہیں
ہَمَا	یُکْنَاہَمَا	وہ سب عورتیں ان دونوں کو ہوتی ہیں
ہُم	یُکْنَاہُم	وہ سب عورتیں ان سب (مردوں) کو ہوتی ہیں
ہَا	یُکْنَاہَا	وہ سب عورتیں اسے (ایک عورت) ہوتی ہیں
ہُنَّ	یُکْنَاہُنَّ	وہ سب عورتیں ان سب (عورتوں) کو ہوتی ہیں

تم (ایک مرد)	أَنْتَ	تم دونوں (مرد/ عورت)	أَنْتُمَا
تم (ایک مرد) مجھے ہوتے ہو	تَكُونِي	تم دونوں مجھے ہوتے ہو	تَكُونَانِي
تم (ایک مرد) ہمیں ہوتے ہو	تَكُونَنَا	تم دونوں ہمیں ہوتے ہو	تَكُونَانَا
تم (ایک مرد) اسے (ایک مرد) ہوتے ہو	تَكُونَهُ	تم دونوں اسے (ایک مرد) ہوتے ہو	تَكُونَاهُ
تم (ایک مرد) ان دونوں کو ہوتے ہو	تَكُونُهُمَا	تم دونوں ان دونوں کو ہوتے ہو	تَكُونَاهُمَا
تم (ایک مرد) ان سب (مردوں) کو ہوتے ہو	تَكُونُهُمْ	تم دونوں ان سب (مردوں) کو ہوتے ہو	تَكُونَاهُمْ
تم (ایک مرد) اسے (ایک عورت) ہوتے ہو	تَكُونِهَا	تم دونوں اسے (ایک عورت) ہوتے ہو	تَكُونَاهَا
تم (ایک مرد) ان سب (عورتوں) کو ہوتے ہو	تَكُونِهِنَّ	تم دونوں ان سب (عورتوں) کو ہوتے ہو	تَكُونَاهِنَّ

تم سب (مرد)	أَنْتُمْ	تم (ایک عورت)	أَنْتِ
تم سب (مرد) مجھے ہوتے ہو	تَكُونُونِي	تم (ایک عورت) مجھے ہوتی ہو	تَكُونِينِي
تم سب (مرد) ہمیں ہوتے ہو	تَكُونُونَا	تم (ایک عورت) ہمیں ہوتی ہو	تَكُونِينَا
تم سب (مرد) اسے (ایک مرد) ہوتے ہو	تَكُونُونَهُ	تم (ایک عورت) اسے (ایک مرد) ہوتی ہو	تَكُونِينِهِ
تم سب (مرد) ان دونوں کو ہوتے ہو	تَكُونُونَهُمَا	تم (ایک عورت) ان دونوں کو ہوتی ہو	تَكُونِينَهُمَا
تم سب (مرد) ان سب (مردوں) کو ہوتے ہو	تَكُونُونَهُمْ	تم (ایک عورت) ان سب (مردوں) کو ہوتی ہو	تَكُونِينَهُمْ
تم سب (مرد) اسے (ایک عورت) ہوتے ہو	تَكُونُونَهَا	تم (ایک عورت) اسے (ایک عورت) ہوتی ہو	تَكُونِينَهَا
تم سب (مرد) ان سب (عورتوں) کو ہوتے ہو	تَكُونُونِهِنَّ	تم (ایک عورت) ان سب (عورتوں) کو ہوتی ہو	تَكُونِينِهِنَّ

تم سب (عورتیں)	أَنْتُنَّ	میں	أَنَا
تم سب (عورتیں) مجھے ہوتی ہو	تَكُونِينَ	میں تمہیں (ایک مرد) ہوتا/ ہوتی ہوں	أَكُونُكَ
تم سب (عورتیں) ہمیں ہوتی ہو	تَكُونِينَا	میں تم دونوں کو ہوتا/ ہوتی ہوں	أَكُونُكُمَا
تم سب (عورتیں) اسے (ایک مرد) ہوتی ہو	تَكُونِينَهُ	میں تم سب (مردوں) کو ہوتا/ ہوتی ہوں	أَكُونُكُمْ
تم سب (عورتیں) ان دونوں کو ہوتی ہو	تَكُونِينَهُمَا	میں تمہیں (ایک عورت) ہوتا/ ہوتی ہوں	أَكُونُكِ
تم سب (عورتیں) ان سب (مردوں) کو ہوتی ہو	تَكُونِينَهُمْ	میں تم سب (عورتوں) کو ہوتا/ ہوتی ہوں	أَكُونُكُمْ
تم سب (عورتیں) اسے (ایک عورت) ہوتی ہو	تَكُونِينَهَا	میں اسے (ایک مرد) ہوتا/ ہوتی ہوں	أَكُونُهُ
تم سب (عورتیں) ان سب (عورتوں) کو ہوتی ہو	تَكُونِينَهِنَّ	میں ان دونوں کو ہوتا/ ہوتی ہوں	أَكُونُهُمَا
		میں ان سب (مردوں) کو ہوتا/ ہوتی ہوں	أَكُونُهُمْ
		میں اسے (ایک عورت) ہوتا/ ہوتی ہوں	أَكُونِهَا
		میں ان سب (عورتوں) کو ہوتا/ ہوتی ہوں	أَكُونِهِنَّ

نَحْنُ	ہم	
كَ	نَكُونُكَ	ہم تمہیں (ایک مرد) ہوتے ہیں
كَا	نَكُونُكَا	ہم تم دونوں کو ہوتے ہیں
كُمُ	نَكُونُكُمْ	ہم تم سب (مردوں) کو ہوتے ہیں
كِ	نَكُونُكِ	ہم تمہیں (ایک عورت) ہوتے ہیں
كُنَّ	نَكُونُنَّ	ہم تم سب (عورتوں) کو ہوتے ہیں
هُ	نَكُونُهُ	ہم اسے (ایک مرد) ہوتے ہیں
هُمَا	نَكُونُهُمَا	ہم ان دونوں کو ہوتے ہیں
هُمْ	نَكُونُهُمْ	ہم ان سب (مردوں) کو ہوتے ہیں
هَا	نَكُونُهَا	ہم اسے (ایک عورت) ہوتے ہیں
هُنَّ	نَكُونُنَّ	ہم ان سب (عورتوں) کو ہوتے ہیں

## USAGE EXAMPLES — PAST

## مثالیں — ماضی

I

أَنَا كُنْتُ غَافِلًا ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيَّ بِالْهُدَايَةِ.  
میں غافل تھا، پھر اللہ نے مجھ پر ہدایت کا احسان فرمایا۔

I was heedless, then Allah bestowed guidance upon me.

We

نَحْنُ كُنَّا عَلَى مَوْعِدٍ مَعَ الدَّرْسِ حَافِظِينَ عَلَى الْوَقْتِ.  
ہم سبق کے وقت کے پابند تھے، اس لیے ہم نے وقت کی حفاظت کی۔

We were committed to the lesson time, so we preserved punctuality.

You (m)

أَنْتَ كُنْتَ صَادِقًا فِي وَعْدِكَ فَازْدَادَتْ ثِقَةُ النَّاسِ بِكَ.  
تم اپنے وعدے میں سچے تھے، اس لیے لوگوں کا تم پر اعتماد بڑھ گیا۔

You were truthful in your promise, so people's trust in you increased.

You (f)

أَنْتِ كُنْتِ قَرِيبَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِطَمَئِنِّتِكَ.  
تم قرآن کے قریب تھیں، اور یہ تمہارے اطمینان کا سبب تھا۔

You were close to the Quran, and that was a cause of your tranquility.

He

هُوَ كَانَ حَلِيمًا عِنْدَ الْغَضَبِ فَحَفِظَ اللَّهُ بِهِ الْقُلُوبَ.  
وہ غصے کے وقت بردبار تھا، اس لیے اللہ نے اس کے ذریعے دلوں کو محفوظ رکھا۔

He was forbearing at the time of anger, and Allah preserved hearts through him.

She

هِيَ كَانَتْ حَرِيصَةً عَلَى الْعِلْمِ فَفَنَعَهَا اللَّهُ بِمَا تَعَلَّمَتْ.  
وہ علم پر حریص تھی، تو اللہ نے اسے اس کے سیکھے ہوئے علم سے نفع دیا۔

She was eager for knowledge, so Allah benefited her through what she learned.

They two

هُمَا كَانَا مُتَعَاوِنِينَ عَلَى الْخَيْرِ فَبَارَكَ اللَّهُ فِي جُهْدِهِمَا.  
وہ دونوں خیر پر باہمی تعاون کرنے والے تھے، تو اللہ نے ان کی محنت میں برکت دی۔

They both were cooperative upon good, so Allah blessed their effort.

They (m)

هُمْ كَانُوا صَابِرِينَ عِنْدَ الشَّدَّةِ فَجَاءَهُمْ فَرَجٌ مِنَ اللَّهِ.  
وہ سختی کے وقت صبر کرنے والے تھے، پھر اللہ کی طرف سے کشادگی آگئی۔

They were patient in hardship, then Allah's relief came to them.

You all (m)

أَنْتُمْ كُنْتُمْ سَبَبًا فِي نَفْعِ النَّاسِ فَأَجْرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ كَبِيرٌ.  
تم سب لوگوں کے نفع کا سبب تھے، اس لیے تمہارا اجر اللہ کے پاس بڑا ہے۔

You all were a cause of benefit for people, so your reward with Allah is great.

They (f)

هُنَّ كُنَّ صَادِقَاتٍ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَفُتِحَ لَهُنَّ بَابُ الْفَهْمِ.  
وہ طلب علم میں سچی تھیں، تو ان کے لیے فہم کا دروازہ کھول دیا گیا۔

They were sincere in seeking knowledge, so the door of understanding was opened for them.

## USAGE EXAMPLES — PRESENT

مثالیں — مضارع

I

أَنَا أَكُونُ أَقْوَى إِذَا أَكْثَرْتُ مِنَ الذِّكْرِ وَالِاسْتِغْفَارِ.  
میں زیادہ مضبوط ہوتا ہوں جب ذکر اور استغفار کثرت سے کرتا ہوں۔

I am stronger when I increase in remembrance and seeking forgiveness.

We

نَحْنُ نَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى النَّجَاحِ إِذَا أَخْلَصْنَا النِّيَّاتِ.  
ہم کامیابی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں جب ہم نیتوں کو خالص کرتے ہیں۔

We are closer to success when we purify our intentions.

You (m)

أَنْتَ تَكُونُ قُدْوَةً حَسَنَةً إِذَا وَافَقَ عَمَلُكَ عِلْمَكَ.  
تم اچھی مثال بننے ہو جب تمہارا عمل تمہارے علم کے مطابق ہوتا ہے۔

You are a good example when your actions match your knowledge.

You (f)

أَنْتِ تَكُونِينَ مُؤَثِّرَةً فِي بَيْتِكَ إِذَا كُنْتِ حَكِيمَةً وَرَفِيقَةً.  
تم اپنے گھر میں مؤثر بنتی ہو جب تم حکمت اور نرمی والی ہوتی ہو۔

You are influential in your home when you are wise and gentle.

He

هُوَ يَكُونُ أَمِينًا فِي عَمَلِهِ فَيَأْمَنُهُ النَّاسُ عَلَى حُقُوقِهِمْ.  
وہ اپنے کام میں امانت دار ہوتا ہے، اس لیے لوگ اسے اپنے حقوق پر امین سمجھتے ہیں۔

He is trustworthy in his work, so people trust him with their rights.

She

هِيَ تَكُونُ مُحْسِنَةً إِذَا جَمَعَتْ بَيْنَ الْإِخْلَاصِ وَالِإِتْقَانِ.  
وہ اس وقت محسنہ بنتی ہے جب اخلاص اور عمدگی کو جمع کرتی ہے۔

She is excellent when she combines sincerity and excellence.

They two

هُمَا يَكُونَانِ عَلَى بَصِيرَةٍ إِذَا رَجَعَا إِلَى أَهْلِ الْعِلْمِ.  
وہ دونوں بصیرت پر ہوتے ہیں جب اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

They are upon insight when they return to the people of knowledge.

They (m)

هُمْ يَكُونُونَ أَقْوَى عِنْدَمَا تَجْتَمِعُ كَلِمَتُهُمْ عَلَى الْحَقِّ.  
وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں جب ان کی بات حق پر جمع ہو جاتی ہے۔

They are stronger when their word unites upon the truth.

You all (m)

أَنْتُمْ تَكُونُونَ فِي خَيْرٍ مَا دُمْتُمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الطَّاعَةِ.  
تم سب خیر میں ہوتے ہو جب تک اطاعت کی طرف متوجہ رہتے ہو۔

You all are in goodness as long as you remain devoted to obedience.

They (f)

هُنَّ يَكُنَّ أَقْرَبَ إِلَى الْفَهْمِ إِذَا دَاوَمْنَ عَلَى السُّؤَالِ وَالْمُرَاجَعَةِ.  
وہ فہم کے زیادہ قریب ہوتی ہیں جب سوال اور مراجعہ پر دوام رکھتی ہیں۔

They are closer to understanding when they persist in asking and reviewing.

## VOCABULARY

المفردات

الْكُونُ

ہونا / وجود

being / existence

الْهُدَايَةُ

ہدایت

guidance

الطَّمَانِينَةُ

اطمینان

tranquility

<p>الْحِلْمُ بردبارى</p> <p>forbearance</p>	<p>الْعِلْمُ علم</p> <p>knowledge</p>	<p>الْفَهْمُ فهم</p> <p>understanding</p>
<p>الذِّكْرُ ذكر</p> <p>remembrance</p>	<p>الِاسْتِغْفَارُ استغفار</p> <p>seeking forgiveness</p>	<p>الْقُدْوَةُ نمونه</p> <p>example</p>
<p>الْإِخْلَاصُ اخلاص</p> <p>sincerity</p>	<p>الْإِتْقَانُ عديگى</p> <p>excellence</p>	<p>الْبَصِيرَةُ بصيرت</p> <p>insight</p>
<p>الطَّاعَةُ اطاعت</p> <p>obedience</p>	<p>الْخَيْرُ خير</p> <p>goodness</p>	<p>أَهْلُ الْعِلْمِ اهل علم</p> <p>people of knowledge</p>